

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR  
AT CAMP COURT ABBOTTABAD.

Service Appeal No. 6129/2020

Date of institution ..... 22.06.2020

Mazhar Mir S/O Allah Din, R/O House No. TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad. Presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital/DHQ Hospital, Abbottabad.

VERSUS


Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Health, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and five others.

ORDER  
21.07.2022

Learned counsel for the appellant present and stated at the bar that the appellant has filed the instant service appeal for correction of his date of birth but during the pendency of the instant service appeal, the appellant has been retired from service on his own request, therefore, the appeal in hand may be filed without further proceedings. In this respect, learned counsel for the appellant has also submitted an application, which is placed on file.

In view of the above, the appeal in hand stands dismissed as withdrawn. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.

ANNOUNCED  
21.07.2022

  
(SALAH-UD-DIN)  
MEMBER (JUDICIAL)  
CAMP COURT ABBOTTABAD

20.12.2021

Nemo for the appellant. On previous date too, none was present on behalf of the appellant, therefore, it was directed that notice be issued to the appellant/counsel to deposit security and process fee within 07 days after receipt of notice, however on perusal of record it transpired that notice has not been issued, therefore, notices be issued to the appellant as well as his counsel through registered post to deposit security and process fee within 07 days after receipt of notice. Thereafter, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments on next date positively. To come up on 17.02.2022 before the S.B at Camp Court Abbottabad.



(Salah-Ud-Din)

Member (J)

Camp Court Abbottabad

17-2-22.

Due to retirement of Mr. Chaudhary case is adjourned. To come up for the same on 21-2-22.


Handwritten signature  
Leadw.

19.02.2021

Appellant present through counsel.

Preliminary arguments heard. File perused.

Points raised need consideration. The appeal is admitted for regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit security and process fee within 10 days. Thereafter notices be issued to respondents for written reply/comments. To come up for written reply/comments on 17.06.2021 before S.B at Camp Court, Abbottabad.

  
(Rozina Rehman)  
Member(J)  
Camp Court, A/Abad

17.06.2021

Due to COVID-19, tour to Abbottabad has been cancelled, therefore, case to come up for the same as before on 11.10.2021.

  
Reader

11.10.2021

Nemo for the appellant. Security and process fee have not been deposited, therefore, notices to the respondents could not be issued.

Notice be issued to appellant/counsel to deposit security and process fee within 07 days after receipt of notice. Thereafter, notices be issued to the respondents for submission of written reply/comments on next date positively. Case to come up on 20.12.2021 before the S.B at camp court, Abbottabad.




  
Chairman  
Camp Court, A/Abad

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Case No.- 6129 /2020

1S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	22/06/2020	<p>The appeal of Mr. Mazhar Mir presented today by Mr. Muhammad Liaqat Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-		<p>This case is entrusted to touring S. Bench at A.Abad for preliminary hearing to be put up there on <u>20.11.20</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p>
20.11.2020		<p>Neither appellant nor anyone else representing him has appeared despite having been called time and again, therefore, appellant as well as his respective counsel be noticed for 19.02.2021 on which date file to come up for preliminary hearing before S.B at Camp Court, Abbottabad.</p> <p style="text-align: right;"> (MUHAMMAD JAMAL KHAN) MEMBER CAMP COURT ABBOTTABAD</p>

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

6129

Appeal No. of 2020

Mazhar Mir S/o Allah Dad R/o House No.TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad, presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital / DHQ Hospital, Abbottabad.

...APPELLANT

**V E R S U S**

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Health, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others

...RESPONDENTS

**SERVICE APPEAL**


**INDEX**

S.No.	Description of Document	Annexure	Page No.
1.	Service Appeal alongwith Verification and affidavit	--	1-7
2.	Application for suspension alongwith affidavit	--	8-9
3.	Copy of the school certificate, old, new CNIC and service Card	"A" & "B"	10 to 14
4.	Copy of the service book	"C"	15, 16
5.	Copy of the application	"D"	17
6.	Copy memo of appeal	"E"	18, 19
7.	Vakalat Nama	--	20

  
...APPELLANT

Through:

Dated: / 7/06/2020

  
(MUHAMMAD LIAQAT)  
Advocate High Court, Abbottabad.

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR**

Khyber Pakhtunkhwa  
Service Tribunal

**6129**

Diary No. 5321 Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2020

Dated 22/6/2020

Mazhar Mir S/o Allah Din R/o House No. TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad, presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital/DHQ Hospital, Abbottabad.

...APPELLANT

**VERSUS**

- 1) Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Health, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 2) Director Health, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 3) Medical Superintendent, Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital/DHQ Hospital, Abbottabad.
- 4) Superintendent of Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital/DHQ Hospital, Abbottabad.
- 5) *Secretary*  
Finance Department, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 6) Comptroller, Account Office, Abbottabad.

...RESPONDENTS

**Filed to-day**  
*22/6/2020*  
**Registrar**

.....  
APPEAL U/S-4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT 1974  
AGAINST THE ACT OF RESPONDENTS NO.1 & 3  
WHEREBY RESPONDENT No 1 & 3 REFUSE TO  
CORRECT THE DATE OF BIRTH OF APPELLANT.  
.....

**PRAYER:-**

ON ACCEPTANCE OF INSTANT APPEAL, RESPONDENT MAY PLEASE BE DIRECTED TO CORRECT THE DATE OF BIRTH ACCORDING TO SCHOOL RECORD AND CNIC ANY OTHER RELIEF WHICH THIS HON'BLE COURT DEEM FIT AND PROPER MAY PLEASE BE GRANTED TO THE APPELLANT.

---

---

***Respectfully Sheweth,***

1. That, the correct date of birth of the appellant according to school record, old, new, CNIC and service card is 15.04.1963. **(Copy of the school certificate, old and new CNIC and service Card are annexed as Annexure "A" & "B" respectively)**
2. That appellant was appointed in respondent department on 10.12.1982. **(Copy of service book is attached as Annexure C")**
3. That, after the appointment service book of appellant was prepared in which respondent inadvertently or mistakenly wrote 15.04.1961.

**(Copy of the service book is already attached as Annexure "C")**

4. That, when it come in to the knowledge of appellant regarding this wrong date of Birth appellant move and application to respondent No.4. **(Copy of application is attached annexed as Annexure "D")**.
5. That, verbally respondent No-4 refuse to correct the date of birth due to lapse of 02 years in service of appellant.
6. That appellant file departmental appeal which is still pending not yet been decided by the respondent till now. **(Copy of memo of appeal is annexed as annexure "E")**.
7. That statutory period of 90 days of the service appeal of the appellant is completed and appeal of the appellant is not decided. And appellant has no other option except filing of instant appeal on the following grounds:-



**GROUNDS:-**

- a) That, the act of the appellate authority is against the law, justice , equity facts available on record, circumstances of the case, illegal, without jurisdiction, is the result of illegal exercise of jurisdiction, void ab-initio and not maintainable in the eye of law hence, liable to be set aside.
- b) That, the act of the appellate authority is the result of misreading and non-reading of the record and did not appreciate the material on record which is sheer violation of the law and settled rules.
- c) That the learned Appellate authority has not exercised the power so vested and exercised the power not according to the law, hence the act is not maintainable in the eye of law.
- d) That the civil servant's initial education record as well as subsequent, record which is base of entry into service is totally correct, but the subsequent entry of incorrect date of birth in service book is unconstitutional, ultra-vires, hence, may kindly be corrected.

- e) That the respondent not doing the correction subject to, in the light of basic educational records having preference other over subsequent entry, therefore respondent fall into error by not doing the correction, hence act of respondent against the appellant is illegal, prejudice, malicious without due course of law.
- f) That petitioner having service fundamental right as well as constitutional right, which is violated by the respondent by not doing correction in the service book of appellant, hence the act of respondent against the prevailing law on the subject.
- g) That the change or alternation of entry is absolute rule that once the entry made could be alter or changed.
- h) That the CNIC entries can be carried presumption of truthfulness similarly basic educational record also carrying presumption of truthfulness over service book which is prepared after such record hence date of birth of appellant may please be correct and

respondent may please be directed to correct the date of birth of the appellant.

- i) That other points shall be raised at the time of arguments with the prior permission of this Hon'ble Tribunal.
- j) That, the instant appeal is well within time.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of instant appeal, respondent may please be directed to correct the date of birth according to school record and CNIC or any other relief which this Hon'ble Court deem fit and proper, may please be granted to the appellant.

  
...APPELLANT

**Through:**

Dated:- 17/06 2020

  
(MUHAMMAD LIAQAT)  
Advocate High Court, Abbottabad.

**VERIFICATION:-**

*Verified that the contents of the instant **Service Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing material has been suppressed from this Honorable Tribunal.*

Dated:- 17/06 2020

  
...APPELLANT

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

Appeal No. \_\_\_\_\_ of 2020

Mazhar Mir S/o Allah Dad R/o House No.TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad, presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital / DHQ Hospital, Abbottabad.

...APPELLANT

**V E R S U S**

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Health, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others


...RESPONDENTS

**SERVICE APPEAL**

**AFFIDAVIT**

I, Mazhar Mir S/o Allah Dad R/o House No.TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad, presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital / DHQ Hospital, Abbottabad, **Appellant**, do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of instant **Service Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

Dated:- 17/06/2020



...APPELLANT

22-6-20

**BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA  
SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.**

**Appeal No.            of 2020**

Mazhar Mir S/o Allah Dad R/o House No.TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad, presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital / DHQ Hospital, Abbottabad.

**...APPELLANT**

**V E R S U S**

Government of Khyber Pakhtunkhwa through Secretary Health, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others

**...RESPONDENTS**

**SERVICE APPEAL**

=====

**APPLICATION FOR SUSPENSION OF THE  
OPERATION OF IMPUGNED PROCESS OF  
RETIREMENT OF THE APPELLANT TILL FINAL  
DECISION OF INSTANT APPEAL.**

=====

***Respectfully Sheweth,***

1. That titled appeal is filed before this Honourable Court, the contents of the same may be treated as an integral part of this application.
2. That appellant has a good Prima-Facie case and balance of convenience also lies in their favour.

3. That if retirement process of the appellant is not stop / stayed then appellant would suffer irreparable loss and the purpose of filing appeal would become infructuous.

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of the foregoing application, and stop the retirement process of appellant may kindly be suspended till final disposal of the titled appeal.



...APPELLANT

**Through:**


**Dated:-** 17/06 2020

  
(MUHAMMAD LIAQAT)  
Advocate High Court, Abbottabad.

**AFFIDAVIT:-**

I, Mazhar Mir S/o Allah Dad R/o House No.TC-254, Mohallah Muhammad Zai, Nawansher, Tehsil and District Abbottabad, presently employee Benazir Bhutto Shaheed Teaching Hospital / DHQ Hospital, Abbottabad, **Appellant**, do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of instant **Application** are true and correct to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.

**Dated:-** 17/06 2020



...APPELLANT

# مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ

منظور شدہ / غیر منظور شدہ  
ریٹ آف انار

ضلع

نمبر 12

نام طالب علم

منظور نہیں

نمبر قابل

6

تاریخ پیدائش: 15-4-1963

نمبر رجسٹرڈ: 9397

تصدیق کیا جاتا ہے کہ

تاریخ: 25-12-1988

منظور نہیں

ان لبار کی صورت میں جو

مدرسہ کے کسی حصہ کی مقررہ

پڑھائی کے اختتام پر چھوڑیں

منشائیں جس میں طالب علم قلم لیا تھا

ان طلبہ کی صورت میں جو

مدرسہ کے کسی حصہ کی مقررہ

پڑھائی کے اختتام پر چھوڑیں

تصدیق کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اندراج اس مدرسہ کے رجسٹرڈ اور ان سائیکلیڈوں کے مطابق صحیح ہیں جو اس نے ان مدرسوں سے حاصل کئے ہیں جہاں اس

تیسری سال میں اس سے پہلے تعلیم پائی ہے۔

Conduct - Good

نمبر	مدرسہ	دخاں ہونے کی تاریخ		خارج ہونے کی تاریخ	سال ریٹرنز کی مدت		حاضر ہونے کی تاریخ	مختصت جو سال مدرسہ میں لی گئی
		اسکول میں	درجہ میں		جماعت میں	تا		
1	مدرسہ ہوا							
2	مدرسہ ہوا							
3	مدرسہ ہوا			17-12-75	17	26		
4	مدرسہ ہوا							

تاریخ اجراء: 17.10.1988

Prepared by: [Signature]  
Government High School, Dera Ismail Khan, District Dera Ismail Khan

قسم کا لٹریچر: [Signature]  
کس سال عطا ہوا: [Signature]  
کون دیتا ہے: [Signature]

نوٹ: عام طور پر مدرسہ چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کے لئے درخواست مدرسہ سے عینہ ہونے کے ایک ماہ کے اندر ہونی چاہیے۔ بصورت ان طلبہ کے جنہوں نے ڈل اسکول کا امتحان دیا جو ایک ماہ نتیجہ نکلنے کی تاریخ سے گننا جائیے۔  
بعد گزرنے ایک ماہ کے مدرسہ چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کے لئے موازی اٹھانے نفیس جانچ ہوگی۔ فارم نمبر دفعہ اے ڈی اے کے  
اگر مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہو جائے اور نئے سرٹیفکیٹ کے لئے درخواست دی جائے تو نئے سرٹیفکیٹ کے لئے موازی اٹھانے وصول کئے جائیں۔

تصدیق کیا جاتا ہے کہ  
نمبر: 19  
اس کی تاریخ پیدائش: [Signature]  
ضلع: [Signature]  
مدرسہ: [Signature]  
جماعت: [Signature]

منظور شدہ / غیر منظور شدہ  
ریٹ آف انار  
ضلع  
جماعت  
مدرسہ  
نمبر قابل  
تاریخ پیدائش  
نمبر رجسٹرڈ  
تصدیق کیا جاتا ہے کہ  
تاریخ  
منظور نہیں  
ان لبار کی صورت میں جو  
مدرسہ کے کسی حصہ کی مقررہ  
پڑھائی کے اختتام پر چھوڑیں  
منشائیں جس میں طالب علم قلم لیا تھا  
ان طلبہ کی صورت میں جو  
مدرسہ کے کسی حصہ کی مقررہ  
پڑھائی کے اختتام پر چھوڑیں  
تصدیق کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل اندراج اس مدرسہ کے رجسٹرڈ اور ان سائیکلیڈوں کے مطابق صحیح ہیں جو اس نے ان مدرسوں سے حاصل کئے ہیں جہاں اس  
تیسری سال میں اس سے پہلے تعلیم پائی ہے۔  
Conduct - Good  
نمبر  
مدرسہ  
دخاں ہونے کی تاریخ  
خارج ہونے کی تاریخ  
سال ریٹرنز کی مدت  
حاضر ہونے کی تاریخ  
مختصت جو سال مدرسہ میں لی گئی  
قسم کا لٹریچر  
کس سال عطا ہوا  
کون دیتا ہے  
نوٹ  
تصدیق کیا جاتا ہے کہ  
نمبر  
اس کی تاریخ پیدائش  
ضلع  
مدرسہ  
جماعت

11

Annex 'B'

121-63	111952	شماره پرونده
الان دوین		نام و نام خانوادگی
T.C. 254		کد ملی
عمل		شغل
الان دوین		نام و نام خانوادگی
1963		تاریخ تولد
عمل		شغل





SERVICE IDENTIFICATION CARD  
GOVT. OF PAKISTAN

Department: Health (N.W.F.P.)

Name: Mazhar Ali

Father's Name: Allah Din

Date of Appointment: 11/12/82

Date of Birth: 15/04/1963 Signature of Authority

Designation: O.T. Attendant

Identification Mark: A cut mark on the fore head. Signature of Holder

13




(E)

National Identity Card No.												
1	2	1	-	6	3	-	1	1	9	9	5	2
Present Address House No. 234 TO P/O												
Newansher Tehsil & District Abad												
Perermanent Address —do—												
—do—												
Blood Group O+												
Oxford Khattak Book Centre												
Tahit Bahl												

14

**Government of N.W.F.P.**  
Service Identity Card  
NIC # 93101-518724-7  
Date of Birth: 09/10/53  
Date of Issue: 02/10/10  
Mark of Issuance:  On Form  Hand  
B.Group: O-1  
Valid Up To: 09/07/2012  
Call No: 0346-6891768  
If found please return to: DHO Hospital Abbottabad



	<b>Government Of N.W.F.P</b> BBS, DHQ Teaching Hospital Abbottabad	
	Name: <b>Abdullah</b>	
	F/Name: <b>Abdullah</b>	
	Designation: <b>Ward Officer, OT</b>	
Issuing Authority		Card No. <b>24</b>

Annex "C"

CP No 10/100-111-1194/688

15

# SERVICE BOOK

D.O. Birth 15-4-1961

D.O. ADPL 10-12-1982


2

D.O. Retirement 15-4-2020

سروایک

121-63-111952  
(کتاب ملازمت)

منظور دواؤں کی



04621

999-20-121482

61  
06  
20

New Number 2280

Name (نام)	_____
Father's Name (والد کا نام)	_____
Qualification (کالیج)	_____
Designation (عہدہ)	_____
Department (حصہ)	_____
Permanent Address (مستقل پتہ)	_____

16

1. Name (نام).....
2. Nationality and Religion .....  
(قومیت اور مذہب)
3. Residence (مستقل رہائش).....
4. Father's name and residence.....  
(والد کا نام اور پتہ)
5. Date of birth by Christian era as nearly as can be ascertained.....  
(تاریخ پیدائش مطابق سن عیسوی)
6. Exact height by measurement.....  
(قد و قامت)
7. Personal mark for identification.....  
(نشان شناخت)

دہلی نئی دہلی شہر فیروز آباد  
آتش دہن

15th April 1961  
Justice of Peace  
(A. H. and S. Singh)

تف  
ک-2

8. Left hand/right hand thumb and finger-impressions of (Non-gazetted) officer

سر کی صورت میں بائیں اور عورت کی صورت میں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات

Little Finger (چوٹکیا) Ring Finger (چوٹکیا کے ساتھ کی انگلی) Middle Finger (انگشت میاں)



Index Finger (انگشت شہادت)

Thumb (انگوٹھا)



9. Signature of Government servant.....

(سرکاری ملازم کے دستخط)

*[Handwritten Signature]*

10. Signature and designation of the Head of the Office, or officer Attesting in Reasoning Officer.....

*[Handwritten Signature]*  
Head of the Office, or officer Attesting in Reasoning Officer

(تصدیق کنندہ افسر کے دستخط اور مہر)

Note.—The entries in this page should be renewed or re-attested at least every five years and the signatures in lines 9 and 10 should be dated. Finger prints need not be taken after every 5 years under this rule.

اس صفحہ کے مندرجات کم از کم پانچ سال بعد تصدیق ہونا ضروری ہیں اور نمبر 9 - 10 میں دستخطوں کے لیے تاریخ ہونی چاہئے۔ انگلیوں کے نشانات کے لیے ہر پانچ سال کے بعد تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔

The Medical Superintendent,  
BBS (DHQ) Teaching Hospital,  
Abbottabad

Annex "D"

**SUBJECT: APPLICATION FOR RECTIFICATION OF DATE OF BIRTH  
IN RESPECT OF MR. MAZHER MIR S/O ALLAH DIN, WARD  
ORDERLY, CNIC: 13101-9315424-7**

Kindly refer to the subject:

(17)

Reverently submitted that the undersigned is performing duties under your kind supervision as a Ward Orderly (BPS-05) presently posted in New Operation Theater DHQ Hospital Abbottabad.

It is submitted that the original/correct Date of Birth of the undersigned as per record including (Middle School Certificate duly attested by the District Education Office Abbottabad, Old and New CNIC, Service Cards and Passport etc) is 15.04.1963 (copies enclosed). But at the time of making/preparing the Service Book of undersigned the then concerned official/clerk have mistakenly or malafidely wrote down incorrect/wrong Date of Birth i.e 15.04.1961 (copies enclosed). The date of retirement of the undersigned written on the first page of the service book is also incorrect/wrong which clearly depicts that the service book was wrote down without proper attention and care.

In light of the above you are requested that the wrong/incorrect Date of Birth (15.04.1961) may kindly be rectified with the correct date of Birth which is (15.04.1963) in the service book and all other documents pertaining to your good office as per record, so that the expected irreparable loss and legal complications can be avoided please.

In this regard your cooperation shall be highly appreciated.

Recd  
6-12-2019  
J. J. J.

*Mazher Mir*

Mr. Mazher Mir S/o Allah Din  
CNIC: 13101-9315424-7  
Personnel Number: 002280  
Contact: 0312-4872276

Dated: 06-12-2019



بخدمت جناب سیکریٹری ہیلتھ گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ پشاور

Annex "E"

عنوان: محکمہ ایبل برادرنگی تاریخ پیدائش

18

جناب عالی!

1- یہ کہ سائل کی درست و صحیح تاریخ پیدائش بمطابق ڈیل سکول سرٹیفیکیٹ (تصدیق شدہ دفتر ای۔ ڈی۔ او) و پرانہ شناختی کارڈ و جاری کردہ شناختی کارڈ نادرا، 15.04.1963 ہے۔ (نقول لف ہیں)۔

2- یہ کہ محکمہ کے ریکارڈ میں موجود سروس بک میں سائل کی غلط و خلاف واقعات تاریخ پیدائش 15.04.1961 درج ہے جو کہ بوقت اندراج سہوایا جان بوجھ کر درج کر دی گئی ہے اور یہ غلطی سائل کے علم میں دسمبر 2019 میں آئی۔ (نقل سروس بک لف ہے)۔

3- یہ کہ جب غلطی علم میں آئی تو سائل نے فوراً زبانی طور پر متعلقہ حکام کو درنگی کی بابت کہا اور بالآخر مورخہ 06.12.2019 کو ایک درخواست مع ثبوت بخدمت جناب میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈی۔ ایچ۔ کیو ہسپتال ایبٹ آباد (درج شدہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈائری نمبر 2968 تاریخ 07.12.2019) گزاری جس پر تاحال سائل کی کوئی دادری نہ ہوئی ہے۔ (نقل درخواست لف ہے)۔

4- یہ کہ سائل کا پرانا پہلا شناختی کارڈ جس میں سائل کی درست و صحیح تاریخ پیدائش 15.04.1963 درج ہے جو کہ مورخہ 21.10.1982 کو جاری کیا گیا اور سائل کو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں نوکری مورخہ 10.12.1982 میں ملی ہے۔ جو کہ قومی شناختی کارڈ بننے کے تقریباً دو ماہ بعد ہے۔ اسی طرح سائل کا قومی شناختی کارڈ ڈیل سکول سرٹیفیکیٹ (تصدیق شدہ ڈی۔ ای۔ او) کے عین مطابق بنا ہے۔ مزید یہ کہ سائل کے تمام سروس کارڈ جو کہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ آف خیبر پختونخواہ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں سائل کی درست و صحیح تاریخ پیدائش 15.04.1963 درج ہے۔

5- یہ کہ اگر سائل کی صحیح و درست تاریخ پیدائش کو مد نظر رکھا جائے جو کہ 15.04.1963 ہے تو اس کے مطابق سائل کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 15.04.2023 بنتی ہے۔ اور اگر سروس بک میں درج شدہ غلط تاریخ پیدائش کو مد نظر رکھا جائے جو کہ 15.04.1961 ہے تو اس کے مطابق سائل کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ 15.04.2021 بنتی ہے۔ جو کہ پورے دو سال کم بنتی ہے۔ جس کا سائل کو بہت بڑا مالی نقصان ہے۔

اندریں حالات استدعا ہے کہ سائل کی تاریخ پیدائش بمطابق درست ریکارڈ سروس بک میں درج کی جائے اور دیگر جو بھی دادری ممکن ہو عطا کی جائے تاکہ سائل ایک بڑے مالی نقصان سے بچ سکے۔

محمد امجد علی

نام: - ظہیر میر ولد اللہ دین (دارڈارڈلی) بے نظیر بھٹو

شہید (ڈی۔ ایچ۔ کیو) ہسپتال ایبٹ آباد

پوسٹل نمبر: - 002280

شناختی کارڈ نمبر: - 13101-9315424-7

رابطہ نمبر: - 0312-4872276

پتہ: - مکان نمبر 254-TC، محلہ محمد زئی نوانشہر،

ایبٹ آباد

77212892  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

INSTRUCTIONS:

No. 221 Rs. 6654

Addressee: DC P

Post town of destination: F.A.

Signature of booking official  
Service instruction over leaf

77212893  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

INSTRUCTIONS:

No. 222 Rs. ✓

Addressee: H. COLTHERBY

Post town of destination: H. COLTHERBY

Signature of booking official  
Service instruction over leaf

77212894  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

INSTRUCTIONS:

No. 223 Rs.

Addressee: R. H. N. N. N.

Post town of destination: R. H. N. N. N.

Signature of booking official  
Service instruction over leaf

77212895  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

INSTRUCTIONS:

No. 224 Rs. 6637

Addressee: DC P

Post town of destination: F.A.

UMS I 77212888  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

No. 217 Rs. 6634

Name of addressee: DC P



Date stamp  
Signature of booking official  
Service instruction over leaf

UMS I 77212889  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

No. 218 Rs. 6634

Name of addressee: DC P




Date stamp  
Signature of booking official  
Service instruction over leaf

UMS I 77212890  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

No. 219 Rs.

Name of addressee: R. H. N. N. N.



Date stamp  
Signature of booking official  
Service instruction over leaf

UMS I 77212891  
PAKISTAN POST OFFICE  
U.M.S. RECEIPT

No. 220 Rs. 6637

Name of addressee: A. S. R. N. N. N.



Date stamp  
Signature of booking official  
Service instruction over leaf

کورٹ فیس

20

وکالت نامہ

بعدالت جناب سرورس ٹریبونل ایف ڈی اے

عنوان: منظر میر نام گورنمنٹ ہف ایف ڈی اے وغیرہ

منجانب: ایڈووکیٹ / منظر میر نوعیت مقدمہ:

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ میں اپنی طرف سے اسے پیروی و جواب دہی کل کاروائی متعلقہ آں مقام  
کیاقت ایڈووکیٹ

کو وکیل مقرر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب موصوف کو کرنے راضی نامہ و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف و دینے اقبال دعویٰ اور بصورت دیگر ڈگری کرانے اجراء وصولی چیک روپیہ و عرضی دعویٰ کی تصدیق اور اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکور کی کل یا کسی جزوی کاروائی کے لئے کسی اور وکیل یا مختار صاحب قانونی کو اپنے ہمراہ اپنی بجائے تقرر کا اختیار بھی ہوگا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی اور ویسے ہی اختیارات ہوں گے اور اس کا ساختہ پرداختہ مجھ کو منظور و قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ جو خرچہ و ہرجانہ التوائے مقدمہ کے سبب ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب ہوں گے۔ نیز بقایا رقم وصول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اگر کوئی پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب موصوف پابند ہوں گے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں اور اگر مختار مقرر کردہ میں کوئی جزو بقایا ہو تو وکیل صاحب موصوف مقدمہ کی پیروی کے پابند نہ ہوں گے۔ نیز درخواست بمراد استجارت نالش بصیغہ مفلسی کے دائرہ کرنے اور اس کے پیروی کا بھی صاحب موصوف کو اختیار ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ تحریر کر دیا تاکہ سند رہے۔

Attested  
Accepted  
[Signature]

بمقام:

المرقوم: 17/06/2020

العبد

العبد

منظر میر وکیل ایف ڈی اے منظر میر وکیل ایف ڈی اے

لجلاک جناب عیبر میں سر دس نمبر پوسٹل کمپنی کورنگ ایسٹ ہمار

منظور حقیر نام گورنمنٹ ڈسٹرکٹ  
..... اپیلانٹ ..... ڈسٹریکٹ

درخواست ہمارا دراصل دفتر ضرائف جانے اپیل  
عنوان بلا فدیہ کارروائی بوجہ ریٹائرمنٹ  
پہرے اپیلانٹ بوجہ بے معنی اپیل

جناب عالی درخواست ذیل ہے۔

اپنے نام اپیل عنوان ذمہ سماعت عدالت  
نمبر پوسٹل انفورمیشن سروس آف ایس  
مندرشدہ ہے۔

دیکھ کر اپیل عنوان میں اپیلانٹ نے تاریخ پیدائش  
کہ درستگی کہ نسبت اصل دائرہ کار میں جو اپیل کے سماعت  
کے دوران ہی اپیلانٹ کو پارٹ آئیڈ ہوا  
جس بنا پر اپیلانٹ نے ریٹائرمنٹ  
کے لئے تین بدیں دیے اب اپیلانٹ کو  
اپیل بڈاؤں ضرورت نہ رہی ہے

بڈاؤ استدعا حکم اپیل عنوان  
بلا فدیہ کارروائی دراصل دفتر ضرائف  
جادے

اعتراف 21/07/22

منظور حقیر اپیلانٹ بڈاؤں کی وجہ سے  
محمد کمال  
اپنے دفتر کے